

سوال

اوران کا کھانا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

پہراہ مہربانی اخبار الجہد میں تحریر فرمائیں۔ کہ قرآن پاک و حدیث شریف کے بموجب لڑکیوں کا حصہ وراثت نہ دینے والوں کا ہزارہ لینا اور ان کا کھانا کھانا مولویوں کو اور انکی دعوتوں میں شریک ہونا عام مسلمانوں کو جائز ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

باپ جب تک زندہ ہے۔ اس پر حصہ نہ دینے والا لفظ صادق نہیں آتا ہاں اگر وہ وصیت لکھ دے۔ کہ میرے ترکہ میں سے میری لڑکیوں کا نہ دینا۔ تو ظالم ہے۔ اس کی کمانی جائز طریق سے ہے۔ تو ہزارہ اور اس کی دعوت جائز ہے۔ حرام کی کمانی تو حرام ہے لڑکیوں کو حصہ سے محروم کرنا ظلم ہے۔

هذا ما عہدی واللہ اعلم بالصواب

[فتاویٰ ثنائیہ امرتسری](#)

جلد 2 ص 534

محدث فتویٰ